

HWDSB

محترم خاندان،

بیملٹن وینٹور تھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی) میں، ہماری عظیم ترجیحات میں سے ایک ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر روز تمام طلباء بخیر و عافیت اسکول پہنچتے ہیں۔

غیرحاضریوں کیلئے اپنے طریق کار کو مستحکم بنانے کیلئے، ہم سیف ارائیول (**SafeArrival**) استعمال کریں گے، جو طلباء کی غیرحاضری کی رپورٹنگ کا نظام ہے اور جو آپ کیلئے غیرحاضریوں کی اطلاع دینے کو نہایت آسان بنا دے گا۔ یہ اسکول کے عملے کو بلاوضاحت غیرحاضریوں (unexplained absences) کو فوری طور پر محسوس کرنے میں بھی مدد دے گا۔ ہمارا مقصد تمام غیرحاضریوں کی خبر رکھنا ہے اور تمام طلباء کے بارے میں ہمیں روزانہ معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ تمام محفوظ ہیں۔

سیف ارائیول (**SafeArrival**) کے ساتھ، خاندان تین میں سے کسی ایک طریقے سے بچے کی غیرحاضری کی اطلاع دیتے ہیں:

1. سیف ارائیول ویب سائٹ استعمال کریں، go.schoolmessenger.ca جب آپ پہلی دفعہ ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں، تو اپنا اکاؤنٹ بنانے کیلئے سائن اپ (**Sign UP**) کو منتخب کریں۔ اٹینڈینس (**Attendance**) کو منتخب کریں پھر رپورٹ این ایسیسٹ (**Report an Absence**) کو منتخب کریں۔
2. اپنے موبائل فون یا ڈیوائس کے استعمال سے، ایپل ایپ اسٹور یا گوگل پلے اسٹور سے (go.schoolmessenger.ca) پر ڈائیے گئے لنک سے اسکول میسنجر ایپلیکیشن (**SchoolMessenger app**) ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں۔ جب پہلی دفعہ آپ یہ ایپ استعمال کریں، تو اپنا اکاؤنٹ بنانے کیلئے سائن اپ (**Sign up**) کو منتخب کریں۔ اٹینڈینس (**Attendance**) کو منتخب کریں اور پھر رپورٹ این ایسیسٹ (**Report an Absence**) کو منتخب کریں۔
3. خود کار فون کے نظام پر غیرحاضری کی اطلاع دینے کیلئے ٹول فری نمبر پر کال کریں 844-506-4350

یہ انتخابات 24 گھنٹے فی یوم، ہفتے کے ساتوں دن دستیاب ہیں۔ آپ مستقبل کی غیرحاضری کی کسی بھی وقت اطلاع دے سکتے ہیں۔

مزید یہ کہ، ہم ان والدین سے رابطہ کرنے کیلئے اسکول میسنجر کمیونیکیشن (**SchoolMessenger Communicate**) خود کار نوٹیفیکیشن سسٹم استعمال کریں گے جن کا بچہ غیرحاضر ہوگا اور جس کی غیرحاضری کی پیشگی اطلاع نہ دی گئی ہو۔ خود کار نوٹیفیکیشن سسٹم والدین سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا تاوقتیکہ والدین غیرحاضری کی تصدیق و تشریح کر دیں۔ اگر یہ سسٹم مقررہ رابطوں تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو آفس کا عملہ رابطہ کرے گا۔

اگر آپ سیف ارائیول (**SafeArrival**) ٹول فری نمبر، ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے استعمال سے اپنے بچے کی غیرحاضری کی پیشگی اطلاع دے دیتے ہیں، تو آپ کوئی نوٹیفیکیشن وصول نہیں کریں گے۔

23 اپریل، 2019ء سے ابتدا ہو رہی ہے، براہ مہربانی بجائے اسکول کو نوٹس بھیجنے یا کال کرنے/ای میل بھیجنے کے، سیف ارائیول (**SafeArrival**) کے استعمال سے غیرحاضریوں کی پیشگی اطلاع دیں۔ اس تاریخ سے، اگر آپ کا بچہ غیرحاضر ہے (جبکہ آپ نے غیرحاضری کی پیشگی اطلاع نہ دی ہوئی ہو) تو اسکول کا عملہ آپ کو اطلاع دینے کیلئے سیف ارائیول (**SafeArrival**) نوٹیفیکیشن بھیجنے کو استعمال کرنا شروع کر دے گا۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو براہ مہربانی اپنے اسکول کے آفس یا پرنسپل سے بات کریں۔ سیف ارائیول پر مزید ذرائع حاصل کرنے کیلئے اس ویب سائٹ پر bit.ly/safearrivalHWDSB یا اپنے اسکول کی ویب سائٹ پر جائیں۔

ہمارے اس نئے سسٹم کو جاری کرنے کے دوران آپ کے صبر و تحمل اور تعاون کا شکریہ۔